


نیویارک سٹی میں COVID-19 کے کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے


اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے تو آپ کو
ہمیشہ گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے پاس
موجودگی کے وقت چہرے پر ماسک پہننا



چاہیے؛ دوسروں سے جسمانی فاصلہ رکھنا چاہیے؛ باقاعدگی
سے ٹیسٹ کروانا چاہیے؛ اور بیمار ہونے کی صورت میں گھر رہنا
چاہیے۔ [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder) پر ویکسینیشن سائٹ تلاش
کریں اور آج ہی ویکسین لگوائیں!

اگر آپ کو مکمل طور پر ویکسین لگ

چکی ہے تو تمام عوامی انڈور جگہوں اور ان تمام
مقامات پر ماسک پہنیں جہاں آپ کو اپنے آس




پاس کے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کو ویکسین
لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں
کے ماسک پہننے کے تقاضوں پر عمل کریں، پبلک ٹرانسپورٹیشن
استعمال کرتے وقت بھی ایسا ہی کریں؛ علامات کی صورت میں
یا اگر آپ کسی COVID-19 سے متاثرہ شخص کے قریب رہے تھے
تو ٹیسٹ کروائیں؛ اور بیماری کی صورت میں گھر پر ہی رہیں۔

ڈیلٹا ویرینٹ NYC میں بڑے پیمانے پر پھیل
رہا ہے۔ یہ اصل وائرس سے دو گنا سے زیادہ متعدی
ہے اور زیادہ شدید بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔



ویرینٹ تب بنتے ہیں جب وائرس کا
پھیلاؤ جاری رہتا ہے۔ موجودہ COVID-19



ویکسینیں ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف مؤثر
ہیں لیکن ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں آنے والے ویرینٹس

کے خلاف اتنی مؤثر نہ ثابت ہو سکیں۔ ابھی ویکسین لگوانے
سے COVID-19 کا پھیلاؤ اور نئے ویرینٹس کا سامنے آنا
کم کرنے میں مدد ملے گی۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں [nyc.gov/covidvaccine](https://www.nyc.gov/covidvaccine)۔

صورت حال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔ 8.23.21

NYC
Health